

مناجاتِ حضرت امیرالمومنینؑ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خدایا! میں اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں	اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْاَمَانَ
جب مال و فرزند کام نہیں آئیں گے	یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ
سوائے اس کے جو خدا کے حضور پاک دل لے کر آئے	اِلَّا مَنْ اَتٰی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ
میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں	وَ اَسْئَلُكَ الْاَمَانَ
جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہے گا	یَوْمَ یَعْصُ الظّٰلِمُ عَلٰی یَدِیْهِ
ہائے افسوس کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا	یَقُوْلُ یَا لَیْتَنِیْ اَتَّخَذْتُ مَعَ
	الرّسُوْلِ سَبِیْلًا
میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں	وَ اَسْئَلُكَ الْاَمَانَ
جب گناہ گار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے	یَوْمَ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِیْمَاهُمْ
اور ان کو بالوں اور پیروں کی طرف سے پکڑا جائے گا	فِیْؤْخَذُ بِالنَّوَاصِیْ وَالْاَقْدَامِ
میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں	وَ اَسْئَلُكَ الْاَمَانَ
جس میں باپ بیٹے کی جگہ	یَوْمَ لَا یَجْزِیْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِیْهِ
اور بیٹا باپ کی جگہ کسی جرم کی سزا نہ پائے گا	وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَاۤزٍ عَنْ وَالِدِیْهِ شَیْئًا
کیونکہ خدا کا وعدہ حق ہے	اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں	وَأَسْأَلُكَ الْإِمَانِ
جس میں ظالموں کا عذر ان کے کام نہ آئے گا	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ
اور ان کے لئے لعنت اور برا ٹھکانا ہوگا	وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ
میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں	وَأَسْأَلُكَ الْإِمَانِ
جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا	يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا
اور اس دن سب کچھ خدا کے ہاتھوں میں ہوگا	وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں	وَأَسْأَلُكَ الْإِمَانِ
جب آدمی اپنے بھائی	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
اپنے ماں اور باپ	وَأُمِّهِ وَآبِيهِ
اپنی بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا	وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
کیونکہ اس دن ہر آدمی کو اپنی ہی فکر پڑی ہوگی	لِكُلِّ امْرٍءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں	وَأَسْأَلُكَ الْإِمَانِ
جس میں مجرم چاہے گا	يَوْمَ يَوْدُ الْمُجْرِمُ
کہ آج کے عذاب سے بچنے کے لئے اپنے بیٹے کو	لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ
اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو	وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيهِ
اور اپنے عزیزوں کو جو اس کی پناہ تھے، اپنا فدیہ بنا دے	وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ
اور زمین میں جو کچھ ہے وہ دے ڈالے	وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

اور نجات حاصل کرے	ثُمَّ يُنَجِّيه
پر یہ ہرگز نہ ہوگا اس لئے کہ یہ وہ شعلہ ہے	كَلَّا إِنَّهَا لَظِي
جو گوشت کو جدا کر دینے والا ہے	نَزَّاعَةٌ لِلشَّوَى
میرے آقا اے میرے آقا	مَوْلَاىَ يَا مَوْلَاىَ
تو والی ہے اور میں بندہ ہوں	أَنْتَ الْمَوْلَىٰ وَ أَنَا الْعَبْدُ
تو بندے پر سوائے والی کے کون رحم کرے گا	وَ هَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَىٰ
میرے آقا اے میرے آقا	مَوْلَاىَ يَا مَوْلَاىَ
تو میرا مالک ہے اور میں تیرا غلام ہوں	أَنْتَ الْمَالِكُ وَ أَنَا الْمَمْلُوكُ
تو غلام پر سوائے اس کے مالک کے کون رحم کرے گا	وَ هَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكُ
میرے آقا اے میرے آقا	مَوْلَاىَ يَا مَوْلَاىَ
تو صاحبِ عزت ہے اور میں پست ہوں	أَنْتَ الْعَزِيزُ وَ أَنَا الدَّلِيلُ
تو پست پر سوائے صاحبِ عزت کے کون رحم کرے گا	وَ هَلْ يَرْحَمُ الدَّلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ
میرے آقا اے میرے آقا	مَوْلَاىَ يَا مَوْلَاىَ
تو میرا خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں	أَنْتَ الْخَالِقُ وَ أَنَا الْمَخْلُوقُ
تو مخلوق پر اس کے خالق کے سوا کون رحم کرے گا	وَ هَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقُ
میرے آقا اے میرے آقا	مَوْلَاىَ يَا مَوْلَاىَ
تو صاحبِ عظمت ہے اور میں ناچیز ہوں	أَنْتَ الْعَظِيمُ وَ أَنَا الْحَقِيرُ

تو ناچیز پر سوائے صاحبِ عظمت کے کون رحم کرے گا

وَهَلْ يَرْحَمُ الْحَقِيرَ إِلَّا الْعَظِيمُ

میرے آقا اے میرے آقا

مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ

تو صاحبِ قوت ہے اور میں ناتواں ہوں

أَنْتَ الْقَوِيُّ وَ أَنَا الضَّعِيفُ

تو ناتواں پر سوائے صاحبِ قوت کے کون رحم کرے گا

وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيفَ إِلَّا الْقَوِيُّ

میرے آقا اے میرے آقا

مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ

تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں

أَنْتَ الْغَنِيُّ وَ أَنَا الْفَقِيرُ

تو نیاز مند پر سوائے بے نیاز کے کون رحم کرے گا

وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِيُّ

میرے آقا اے میرے آقا

مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ

تو عطا کرنے والا ہے اور میں سوالی ہوں

أَنْتَ الْمُعْطِيُّ وَ أَنَا السَّائِلُ

تو سوالی پر سوائے عطا کرنے والے کے کون رحم کرے گا

وَهَلْ يَرْحَمُ السَّائِلَ إِلَّا الْمُعْطِيُّ

میرے آقا اے میرے آقا

مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ

تو زندہ رہنے والا ہے اور میں مرجانے والا ہوں

أَنْتَ الْحَيُّ وَ أَنَا الْمَيِّتُ

تو مرجانے والے پر سوائے زندہ کے کون رحم کرے گا

وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَيِّتَ إِلَّا الْحَيُّ

میرے آقا اے میرے آقا

مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ

تو باقی رہنے والا اور میں فنا ہونے والا ہوں

أَنْتَ الْبَاقِيُّ وَ أَنَا الْفَانِي

تو فانی پر سوائے باقی رہنے والے کے کون رحم کرے گا

وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَانِيَّ إِلَّا الْبَاقِي

میرے آقا اے میرے آقا

مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ

تو ہمیشہ رہنے والا ہے اور میں مٹ جانے والا ہوں

أَنْتَ الدَّائِمُ وَ أَنَا الزَّائِلُ

تو مٹ جانے والے پر سوائے ہمیشہ رہنے والے کے کون رحم کرے گا

وَ هَلْ يَرْحَمُ الزَّائِلَ إِلَّا الدَّائِمُ

میرے آقا اے میرے آقا

مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ

تو رزق دینے والا ہے اور میں رزق لینے والا ہوں

أَنْتَ الرَّازِقُ وَ أَنَا الْمَرْزُوقُ

تو رزق لینے والے پر سوائے رازق کے کون رحم کرے گا

وَ هَلْ يَرْحَمُ الْمَرْزُوقَ إِلَّا الرَّازِقُ

میرے آقا اے میرے آقا

مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ

تو سخاوت کرنے والا ہے اور میں بخیل ہوں

أَنْتَ الْجَوَادُ وَ أَنَا الْبَخِيلُ

تو بخیل پر سخاوت کرنے والے کے سوا کون رحم کرے گا

وَ هَلْ يَرْحَمُ الْبَخِيلَ إِلَّا الْجَوَادُ

میرے آقا اے میرے آقا

مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ

تو بچانے والا اور میں گرفتارِ بلا ہوں

أَنْتَ الْمُعَافِي وَ أَنَا الْمُبْتَلَى

تو گرفتارِ بلا پر سوائے بچانے والے کے کون رحم کرے گا

وَ هَلْ يَرْحَمُ الْمُبْتَلَى إِلَّا الْمُعَافِي

میرے آقا اے میرے آقا

مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ

تو بزرگی کا مالک ہے اور میں کمترین ہوں

أَنْتَ الْكَبِيرُ وَ أَنَا الصَّغِيرُ

تو ایک کمترین پر سوائے بزرگی والے کے کون رحم کرے گا

وَ هَلْ يَرْحَمُ الصَّغِيرَ إِلَّا الْكَبِيرُ

میرے آقا اے میرے آقا

مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ

تو رہنما ہے اور میں گمراہ ہوں

أَنْتَ الْهَادِي وَ أَنَا الضَّالُّ

تو ایک گمراہ پر سوائے رہنما کے کون رحم کرے گا

وَ هَلْ يَرْحَمُ الضَّالَّ إِلَّا الْهَادِي

میرے آقا اے میرے آقا	مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ
تو بہت رحم کرنے والا اور میں طالبِ رحم ہوں	أَنْتَ الرَّحْمَنُ وَ أَنَا الْمَرْحُومُ
تو ایک طالبِ رحم پر سوائے رحمان کے کون رحم کرے گا	وَ هَلْ يَرْحَمُ الْمَرْحُومَ إِلَّا الرَّحْمَنُ
میرے آقا اے میرے آقا	مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ
تو با اقتدار اور میں مصیبت زدہ ہوں	أَنْتَ السُّلْطَانُ وَ أَنَا الْمُتَمَتِّحُنُ
تو ایک مصیبت زدہ پر سوائے با اقتدار کے کون رحم کرے گا	وَ هَلْ يَرْحَمُ الْمُتَمَتِّحِينَ إِلَّا السُّلْطَانُ
میرے آقا اے میرے آقا	مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ
تو رہنما ہے اور میں سرگرداں ہوں	أَنْتَ الدَّلِيلُ وَ أَنَا الْمُتَحَيِّرُ
تو ایک سرگرداں پر سوائے رہنما کے کون رحم کرے گا	وَ هَلْ يَرْحَمُ الْمُتَحَيِّرَ إِلَّا الدَّلِيلُ
میرے آقا اے میرے آقا	مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ
تو بہت بخشنے والا ہے اور میں گنہگار ہوں	أَنْتَ الْغَفُورُ وَ أَنَا الْمُدْنِبُ
تو ایک گنہگار پر سوائے بخشنے والے کے کون رحم کرے گا	وَ هَلْ يَرْحَمُ الْمُدْنِبَ إِلَّا الْغَفُورُ
میرے آقا اے میرے آقا	مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ
تو غالب ہے اور میں زبردست ہوں	أَنْتَ الْغَالِبُ وَ أَنَا الْمَغْلُوبُ
تو ایک زبردست پر سوائے غالب کے کون رحم کرے گا	وَ هَلْ يَرْحَمُ الْمَغْلُوبَ إِلَّا الْغَالِبُ
میرے آقا اے میرے آقا	مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ
تو پروردگار اور میں پروردہ ہوں	أَنْتَ الرَّبُّ وَ أَنَا الْمَرْبُوبُ

تو ایک پروردہ پر سوائے پروردگار کے کون رحم کرے گا	وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْبُوبَ إِلَّا الرَّبُّ
میرے آقا اے میرے آقا	مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ
تو بڑائی والا ہے اور میں عاجزی کرنے والا ہوں	أَنْتَ الْمُتَكَبِّرُ وَ أَنَا الْخَاشِعُ
تو عاجز پر سوائے بڑائی والے کے کون رحم کرے گا	وَهَلْ يَرْحَمُ الْخَاشِعَ إِلَّا الْمُتَكَبِّرُ
میرے آقا اے میرے آقا	مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ
تیری رحمت کا واسطہ مجھ پر رحم کر	إِرْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ
اور تیری عطا و کرم اور فضل کا واسطہ مجھ سے راضی ہو جا	وَأَرْضْ عَنِّي بِجُودِكَ وَ
	كَرَمِكَ وَ فَضْلِكَ
اے صاحب عطا و صاحب احسان	يَا ذَا الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ
اے صاحب مروت و صاحب سخاوت	وَالطَّوْلِ وَ الْإِمْتِنَانِ
تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے ارحم الراحمین۔	بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اسد اللہ غالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام

ارشاد فرماتے ہیں:

”لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔

سختی جو دولت نہیں پاتا اور دولت مند جو سخاوت نہیں کرتا۔“